



سوال

(245) قرآن و حدیث کی تعریف

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

1- قرآن یعنی کلام اللہ کس کو کہتے ہیں؟

2- حدیث یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟

3- اصطلاح شرح میں حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟

4- ہم مسلمان بہت آسانی کے ساتھ کیونکر معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟

5- عام طور پر یہ جو مشہور ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور اس کا مفہوم یہ دونوں منزل من اللہ ہیں اور حدیث شریف کا مفہوم تو مع حدیث قدسی محض قرآن پاک کا ہے اور اس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ خیال عوام کا کیسا ہے؟

چونکہ ترمذی میں ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

فضل کلام اللہ علی سائر الکلام بفضل اللہ علی خلقہ

(سنن الترمذی رقم الحدیث (2926) سنن الدارمی (533/2) اس کی سند میں "عطیہ عوفی" راوی ضعیف ہے دیکھیں السلسلۃ الضعیفۃ رقم الحدیث (1335))

یعنی بزرگی کلام اللہ کی تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے بزرگی اللہ عزوجل کی اپنی مخلوق پر۔

اب میں محض اسی وجہ سے کہ حدیث شریف اور کلام اللہ کو اگر کلام الہی مان لوں اور درحقیقت قرآن کلام الہی اور حدیث شریف صرف کلام رسول ہوا تو دونوں کو بحیثیت کلام مساوی بلانے کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ شرک لازم آجائے اس لیے بخوف

"خِطَّتْ أَعْمَاقُنَا"

اس مسئلے کی تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ امید ہے کہ آپ بھی برائے خدا اگر کوئی فرق ہو تو اس بارگاہی سے مطلع فرمائیں اگر نہ ہو تو تحریر فرمادیجئے تاکہ اس کے موافق عمل کریں کیونکہ حدیث کے بلانے میں تو ہمارا پورا عقیدہ ہے کہ بموجب حکم خدا "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ"

حدیث و قرآن کو اپنا واجب العمل گردانتے ہیں کیونکہ جب ہم خدا اور رسول کے بلانے کا اقرار کرتے ہیں تو اس صورت میں بلانے والے دونوں کے ہیں لیکن خدائے تعالیٰ کو خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول جانتے ہیں۔ کیونکہ "رب" اور "عبد" کا فرق نہ کرنے کی صورت میں شرک لازم آجائے گا اسی وجہ سے کلام رب اور کلام عبد میں فرق



کرنے کا خیال ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ جناب کی خدمت میں اپنے شکوک کو پیش کیا گیا۔ المستقیمی: سید جواد علی رضوی۔ تاریخ 15/ جمادی الاول 1331ھ۔ از علی گڑھ بازار سبزی منڈی۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!
الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

1- قرآن اللہ تعالیٰ کے اس کلام مقدس کو کہتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جس کا نزول حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطریق تو اتر ثابت ہوا جس کے ساتھ مخالفین اسلام سے تحدی یعنی معارضہ طلب کیا گیا

قُلْ لَنْ اَجْتَمِعَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ ... ۸۸ ... سورة الاسراء

جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع کیا گیا جس کی نقلیں حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرا کر تمام اسلامی دنیا میں شائع کیا جو آج تک تمام دنیا میں شائع ہے جس کو اس وقت سے اب تک ہر زمانے میں لاکھوں حافظ حفظ کرتے چلے آئے۔

2- حدیث یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قول و فعل اور تقریر کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو یا وہ قول جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ مندرجہ قرآن نہ ہو گو وہ قول و فعل یا تقریر کلام الہی ہی سے مانو ذہو لیکن اس کی نسبت صراحتاً فرمایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

3- اصطلاح شرع میں حدیث قدسی (حدیث الہی) اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمادی ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن "النبی صلی اللہ علیہ وسلم": (یقول اللہ تعالیٰ: اَعَدْتُ لِعِبَادِی الصَّالِحِیْنَ مَا لَمْ یَرَوْا وَلَا اُذُنْ سَمِعَتْ وَلَا نَحَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ) (متفق علیہ مشکوٰۃ ص: 487) [1]

(سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا ہے کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی آیا ہے)

4- ان تینوں امور میں فرق جو ابات نمبر ہائے مذکورہ بالا سے باسانی معلوم کر سکتے ہیں۔

5- قرآن پاک کے الفاظ یقیناً باعمیا نہ منزل من اللہ ہیں اور حدیث شریف کے الفاظ کی نسبت یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کہ منزل من اللہ ہیں اگرچہ حدیث قدسی ہی کیونکہ نہ ہو لیکن اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ حدیثیں جو فی الواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہیں جو متعلق بہ تبلیغ رسالت ہیں وہ داخل وحی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا یَنْطَلِقُ عَنِ الْحَمِی ۲ اِنْ یُؤَلَّوْا حِی لِحِی ۴ ... سورة النجم

(اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے)



اور حدیث ترمذی مستقولہ سوال نمبر (5) نہیں ہے اس میں ایک راوی عطیہ ہے جو کثیر الخطا اور مدلس ہے اور اس نے اس حدیث کو "عن" کے ساتھ روایت کی ہے اور مدلس جو حدیث "عن" کے ساتھ کرے وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور ابو سعید جس سے عطیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے معلوم نہیں کون ہے؟ ظن غالب یہ ہے کہ یہ ابو سعید محمد بن سائب کلبی ہے جو متہم بکذب و متہم بالوضع ہے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم) (کتبہ: محمد عبداللہ (15/جمادی الاولیٰ 1331ھ)

[1] - صحیح البخاری رقم الحدیث (3071) صحیح مسلم رقم الحدیث (2414) - مشکاة المصابیح (3/220)

حداماعندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 05